



سوال

(54) زید عرصہ سے کامل استطاعت رکھتے ہوئے، بغیر کسی عذر شرعی الخ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زید عرصہ سے کامل استطاعت رکھتے ہوئے، بغیر کسی عذر شرعی کے محض طلب دنیا کے پیچھے لگ کر فرض حج سے محروم رہ کر انتقال کر گیا، اس کے ورثاء اگر حج بدل کر انہیں تو زید کے ذمہ حج کا فرض ساقط ہوگا یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حج بدل حدیثوں میں آیا ہے، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ (فتاویٰ ثنائیہ جلد اول ص ۵۰۹ طبع دہلی ۱۳۷۲ ہجری)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 08 ص 63

محدث فتویٰ